



جو لوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر صحیح پڑھاتے ہیں، تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، تو تمہیں (تمہاری نماز) کا ثواب مل کر رہے گا اور ان کا گناہ ان کا ذمہ ہوگا

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جو لوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر صحیح پڑھاتے ہیں، تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، تو تمہیں (تمہاری نماز) کا ثواب مل کر رہے گا اور ان کا گناہ ان کا ذمہ ہوگا“
[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

نبی ﷺ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ کچھ ائمہ یعنی حکمران ایسے آئیں گے، جو تمہیں نماز پڑھائیں گے، اگر وہ خیر و خوبی کے ساتھ نماز ادا کریں، تو تمہارے اور ان کے حق میں اجر و ثواب کا باعث ہوگی اور اگر نماز میں بگاڑ پیدا کردیں، تو تمہیں اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا اور نماز کی خرابی و بگاڑ کا وبال ان کے سر ہوگا یہ بات گرجے امرا کے تعلق سے کہی گئی ہے، لیکن مساجد کے ائمہ بھی اس میں شامل ہیں، ان میں سے ہر شخص نماز کو بحسن و خوبی یا بگاڑ کر ادا کرنے کے اعتبار سے بدلے کا مستحق ہوگا اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ امرا و حکمرانوں کی زیادتیوں پر صبر کرنا واجب ہے اگر وہ نماز خراب طریقے سے پڑھائیں اور مقررہ اوقات میں ادا نہ کریں، تو ہم پر واجب ہے کہ ان سے علحدگی اختیار نہ کریں اور نماز باجماعت انہیں کے مطابق موخر کر کے پڑھ لیا کریں ہمارا یہ نماز کو اول وقت سے موخر کر کے پڑھنا، جماعت کی موافقت اور علحدگی سے بچنے کی وجہ سے عذر پر مبنی ہوگا اور ہمیں اول وقت میں نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا لیکن تاخیر اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ نماز کا وقت ختم نہ ہونے پائے خیال رہے کہ لوگوں اور حکمرانوں سے علحدگی اختیار کرنا، لوگوں کو ان کے خلاف بغاوت پر اکسانا اور ان کی برائیوں کو عام کرنا، یہ سارے کام دین اسلام سے دور کرنے کے ذرائع و اسباب ہیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4931>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

